

023 - فرسٹ اینڈل - (جمکاس)

فزکس

Paper : I (Objective Type)

PAPER CODE = 5471

1 (مردہشی طرز)

Time Allowed : 15 Minutes

(پہلا گروپ)

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 12

کل نمبر : 12

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

Which one of the following is the smallest quantity :	درج ذیل میں سے کون سی مقدار سب سے چھوٹی ہے :	1
5000 ng (D) 100 μg (C) 2 mg (B) 0.01 g (A)		
Which one of the following unit is not a derived unit :	ان میں سے کون سا یونٹ ماخوذ یونٹ نہیں ہے :	2
Watt واٹ (D) Newton نیوٹن (C) Kilogram کلوگرام (B) Pascal پاسکل (A)		
A body has translatory motion if it moves along a :	کسی جسم کی سوشن ٹرانسلیٹری ہوگی اگر وہ حرکت کرتا ہے :	3
Circle دائرہ میں (B) Straight line (A) خط مستقیم میں Curved path خم دار راستہ پر (D) Line without rotation گھومے بغیر (C)		
How many states of equilibrium :	توازن کی کتنی حالتیں ہیں :	4
4 (D) 3 (C) 2 (B) 1 (A)		
The number of forces that can be added by head to tail rule :	ہیڈ ٹو ٹیل رول سے ویکٹرز کی تعداد جنہیں جمع کیا جاسکتا ہے وہ ہے :	5
Any number کوئی بھی تعداد (D) 4 (C) 3 (B) 2 (A)		
The orbital speed of a low orbit satellite is :	زمین کے انتہائی قریب گردش کرنے والے سیٹلائٹ کی سپیڈ :	6
8000 ms ⁻¹ (D) 800 ms ⁻¹ (C) 8 ms ⁻¹ (B) Zero سبز (A)		
One horse power is equal to :	ایک ہارس پاور برابر ہوتی ہے :	7
700 W (D) 750 W (C) 740 W (B) 746 W (A)		
The work done will be zero when the angle between the force and the distance is :	کام سرف ہوگا جب فورس اور فاصلہ کے درمیان زاویہ ہوتا ہے :	8
180° (D) 90° (C) 60° (B) 45° (A)		
SI unit of pressure is Pascal, which is equal to :	سسٹم انٹرنیشنل میں پریشر کا یونٹ پاسکل ہے اور ایک پاسکل برابر ہوتا ہے :	9
10 ³ Nm ⁻² (D) 10 ² Nm ² (C) 1 Nm ⁻² (B) 10 ⁴ Nm ⁻² (A)		
On celsius scale, 300 K = ? :	سینٹی گریڈ سکیل میں 300 K = ? :	10
26°C (D) 25°C (C) 24°C (B) 27°C (A)		
The range of clinical thermometer is :	کلینیکل تھرمومیٹر کی رینج ہوتی ہے :	11
35°C-42°C (D) 30°C-42°C (C) 25°C-42°C (B) 20°C-42°C (A)		
In solids, heat is transferred by :	فوس اجسام میں انتقال حرارت کا طریقہ ہے :	12
Conduction کنڈکشن (B) Radiation ریڈی ایشن (A) Absorption ایزاریشن (D) Convection کنوئیکشن (C)		

111-023-I-(Objective Type)-36250 (5471)

